



انگریزی زبان سیکھنے والا، یا ELL، وہ طالب علم ہے جس کو اسکول میں انگریزی سیکھنے میں اضافی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ میں 4.9 ملین ELLs ہیں۔\*

\*2016 میں، نیشنل سنٹر فار ایجوکیشن اسٹانڈٹک کے مطابق

## ایک طالب علم کی بطور ELLs شناخت کرنا



1. آپ نے گھر میں استعمال ہونے والی زبان کے بارے میں سوالات کے جوابات دیئے ہیں۔
2. ٹیسٹ نے سماعت، عبارت خوانی، تکلم اور تحریر میں آپ کے بچے کی انگریزی کی مہارت کی پیمائش کی۔
3. آپ کے بچے کو دوسری کلاسوں کے علاوہ انگریزی میں تعلیم مل سکتی ہیں۔

ELLs طلباء ہر سال انگریزی زبان کا تعلیمی ٹیسٹ دیتے ہیں۔ ٹیسٹ کی معلومات اساتذہ کو یہ منصوبہ بنانے میں مدد دیتی ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کس طرح بہتر بنانے کے لیے تعلیم دے سکیں۔ ٹیسٹ اسکور اساتذہ کو یہ جاننے میں بھی مدد دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ کب انگریزی زبان میں تعاون حاصل کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ آپ اسکول میں اپنے بچے کی حمایت میں بات کرنے کے لیے ٹیسٹ کی معلومات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کے اساتذہ سے اس کے بارے میں بات کریں:

- آپ کب ٹیسٹ اسکور حاصل کریں گے اور اپنے بچے کی پیش رفت پر کیسے نظر رکھیں گے۔
- آپ گھر میں اپنے بچے کی زبان سیکھنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔
- جب آپ کا بچہ انگریزی زبان کی تعلیم میں مہارت حاصل کرتا ہے تو معاونت میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔
- کب طلبا کو انگریزی زبان میں مدد ملنا بند ہو جاتی ہے۔

- میرے بچے کے لیے کیا اہداف ہیں؟
- انگریزی کی تعلیم ان دیگر مہارتوں کے ساتھ کیسے فٹ بیٹھتی ہے جو میرا بچہ سیکھ رہا ہے؟
- آپ اسکول میں طلبا کی زبانیں اور ثقافتیں کیسے شامل کرتے ہیں؟

سوالات جو آپ پوچھ سکتے ہیں

اپنے بچے کے اسکول میں انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں پوچھیں۔  
طلباء کا ہر سال ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو زبان کی مدد کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا حق ہوتا ہے۔